


انجیل ۽ درونت ئے پہ زهگاں ماس پس



مردک کے
کدی سرجهل
نه کرث



نوشتہ کار: Edward Hughes

السرکار: Jonathan Hay
Alastair Paterson

اپنائنگکار: Mary-Anne S.

مترجم کار: www.christian-translation.com


پیداوار کار: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.



لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



بادشاہ نبوکد نظر یک زبیداری
بتک ء جوڈ کرت کہ آسراں
داں پاداں سہرئیگے ات بوت
کن بادشاہ ہما و اب بھیال کرت
ات، کہ ہدا آئی ء را گشگ
ء ہاترا دیم دات، کہ آئی ء
ڈولداریں بادشاہی مدامی نہ مان
ایت، بوت کنت آئی پگر کرتگ
کہ آئی یک سہرے بت ء جوڈ
کرت گڈا پدا آئی و ابے ہدا ء
کلام راست مہ بیت۔






بادشاہ ءِ کارندہ یکے ءِ درائیں
مردمان ءِ آئی پرمان وانت
ءُ گوشدارینت، . . . بہ کپ ات
سہرے بت ءِ سجدگ بکن ات
ءُ ہما کہ سندھ مہ کنت آچ ءِ
روکیں تنور ءِ دور دئیگ بیت۔



جوبادشاہ نے حکم دیا، وہ ہر شخص نے کیا۔ سوائے تین
مردوں کے۔ یہ مرد عبرانی تھے۔ وہ سدرک اور میسک
اور عبد نجو، دانی ایل کے دوست تھے۔ ایسا لگتا
ہے کہ دانی ایل وہاں، اُس وقت نہیں تھا،

کیونکہ یقیناً اس نے
بھی انسان کی بنائی
ہوئی مورت کو
سجدہ کرنے سے
انکار کر دینا تھا۔



بادشاہ ء زانتکاران دانی ایل ء گوں آئی سنگتان کینگ کرت،
چیاکہ بادشاہ ء آیان ء دوست کرت، گڈا آیان گشت آنوں لہتیں
یہودی انت، کہ تہ آیان ء بابل ء صوبہ ء سرا راج پہازی
ء ہاترا گچین کرتہ یعنی سدرک، میسک، عبد نجو۔ اے

مردمان اے بادشاہ تئی شریپ نہ کرتگ، آتئی

معبودانی عبادت نہ کرتگ

انت، ء آیان سہرے بت کہ

شما جتگ انت


سجدگ نہ کرتہ۔



نبوڪڊ نظر بادشاه سڪي ۽ زار
۽ پر بوت، آئي ايشان ۽ هبردار
ڪرت، اگان سجدگ نه ڪنت گڏا
آنوں آچ ۽ تنور ۽ ٺور دئيگ
بئيٽ دگه ڪجام معبود شمارا
چه مني دست ۽ رکهين آيت۔




بادشاہ یک مزنیں ردے کنگ ء ات، آپہ راستی زندگیں ہدا
درائی دنت، سے عبرانی مردم زانت انت، کہ بت ء عبادت
کنگ ہدا ء پرمان ء ہلاپ انت، آ اوشتات انت چیاکہ آیا۔
ہدا ء سرا بھیسہ کرت ات، آچہ بادشاہ نہ ترسگ ء اتان۔




اے سے بامردیں مردمان بادشاہ را پسو دات، آیان گشت
بچار ہمے ہدا کہ ہما آئی عبادت ء کناں، ہمارا چہ آچ ء
سوچوکیں تنور ء رکھینگ ء کدرت ء دار آیت، ء اے بادشاہ
ہما ہمارا چہ تئی دست ء رکھیں آیت، اگان نا گڈا اے بادشاہ
تہ سہی ئیے، ہما تئی معبودانی عبادت ء نہ کناں، ء اے

سہرے بت کہ
تہ جنگ ہے،
سجنگے
نہ کناں۔




انو نبوكد نضر
چه زار ء پُر بوت،
ءَأى پرمآن دات
كه تنور ء آچ ء
چه سرئىگ ء پىت
اىنكس گرم بدئىت
پدا هم اے مردم نه
جهكت انت.



بادشاہ نے اپنے لشکر کے چند زور آور
پہلوانوں کو حکم کیا کہ سدرک اور میسک
اور عبد نجو کو
باندھ کر آگ کی
جلتی ہوئی

بھٹی میں
ڈال دیں۔



ءُ تنور ء آچ انچو ترند
ات كه سدرک ميسک ءُ
عبد نجو را دور داتگين
مردم وتی بن گپت ءُ
مرت انت۔



بادشاہ چہ دور ء چارت آئی دیست کہ اے سہیناں آچ ء جل
ء دور دیگ بوتگ ء انت بلئے اے مچ چوش نہ ات کہ
چوش اے گندگ ء ات۔



بادشاہ نبوکد نظر ھجکہ ات چے ھما سے مردم نہ بست ء

آچ ء دور نہ دات؟ آئی چہ

وتی کمک کنوکان جست

گپت، ہاں، آیاں پسو دات،

آئی گشت بچار من

چار مردم گردگ ء

نندگ ء گندگ ء او،

ء آ بیچ نہ سوچگ

ء انت، چارمی ء

درشم آلہ زادہ ء

وڈا انت۔



آنوں نبوکد نظر آچ ۽ بن داتگیں
تنور ۽ دروازگ آتک ۽ گشت ۽
اے سدرک ۽ میسک ۽ عبد نجو
هدا ۽ بندگان ڈن ۽ در بیا ات اد
۽ بیا ات، بس سدرک ۽ میسک ۽
عبد نجو چه آ۔
۽ در کپت انت۔



آنوں درستان یکجا اے مردمانی سرا چم جت ء چارت اش
کہ کہ آچ ء آیانی بدن ء ہچ نہ کرت ء آیانی سر ء یک
مودے ہم نہ سوتگگ و آیانی پوشاک ء تھا یک ٹکے ہم
پرک نیاتگ چہ آیاں آچ ء بو ء ہم نیاتگ۔



وہدیکہ آ سرپد بوت کہ بے بوہے ء انت گڈا بادشاہ نبوکد
نظر ایک سرپدی کارے کنت آ دعا کنت کہ سدرك میسک
ء عبد نجو شمارا شمئے ہدا مبارک بیت کہ آئی وتی
پرشتگ دیم دات وتی بندگے رکھینت انت کہ آیاں آئی
پرمان ء سرا توکل کرت
و بادشاہ ء پرمان
اش رد کرت۔



مردک کہ کدی سرجهل نہ کرت

یک قصہ ء خدا ء لوزان، انجیل


تہا دیدگ بوتہا

دانی ایل ۳

"تہی لوزانی دلچسپی روشنائی دات۔"

پ س ا ل م 130:119





33



60



انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانی کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آثارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہاز دوست کنت او آ وتی پاک ء زاگ چیزس ء
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناہانی معافی لوٹے،
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:

جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ
پہ زندگ بئیگہ پہ منی کمک آکن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 16:3

